



Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) (حضرت شاہ عبد القادر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة النور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة أنزلت لها وفرضت لها

1.

ایک سورت ہے ہم نے اتاری، اور ذمہ پر لازم کی (احکام کو فرض کیا)،

وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

اور اتاری اس میں باتیں صاف (واضح) شاید تم یاد رکھو۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

2.

بدکاری کرنے والی عورت اور مرد سوما رو ایک ایک کو دونوں میں سے، سو چوٹ تچی (کوڑے)۔

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اور نہ آئے تم کو ان پر ترس، اللہ کے حکم چلانے میں۔ اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر۔

وَلَيْشَهِدُ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور دیکھیں ان کا مارنا کوئی لوگ مسلمان۔

الَّذَانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

بدکار مرد نہیں بیاہتا مگر عورت بدکار یا شریک والی (مشرک)۔

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

اور بدکار عورت کو بیاہ نہیں لیتا مگر بدکار مرد یا شریک والا (مشرک)۔

وَحُرْمَةٌ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر۔

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں قید والیوں کو (پاکدامن عورتوں پر)۔ پھر نہ لائے چار مرد شاہد (گواہ)،

فَأَجْلِدُوهُمْ شَمْنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

تو مارو ان کو اسی چوٹ پتھی (کوڑے) کی، اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

اور وہی لوگ ہیں بے حکم۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

مگر جنہوں نے توبہ کی اس پیچھے (کے بعد) اور سنوار پکڑی (اصلاح کر لی)۔ تو اللہ بخشتا ہے مہربان۔

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ

اور جو عیب لگائیں اپنی جو روؤں (بیویوں) کو اور شاہد (گواہ) نہ ہوں ان پاس سوا اپنی جان،

فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ^٧

تو ایسے کسی کی گواہی یہ کہ چار گواہی دیوے اللہ کے نام کی، مقرر (کہ ضرور) یہ شخص سچا ہے۔

.7

وَالْحَمْسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

اور پانچویں یہ کہ اللہ کی پھٹکار ہو اس شخص پر اگر وہ جھوٹا۔

.8

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ^٨

اور عورت سے تلتی ہے ماریوں کہ گواہی دے چار گواہی اللہ کے نام کی، مقرر (کہ ضرور) وہ شخص جھوٹا ہے۔

.9

وَالْحَمْسَةُ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

اور پانچویں یہ کہ اللہ کا غضب آئے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہے۔

.10

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اسکی مہر (رحمت)،

وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، حکمتیں جانتا، تو کیا کچھ ہوتا۔

.11

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ^ج

جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تمہیں میں ایک جماعت ہیں۔

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ^ج

تم اس کو نہ سمجھو بڑا اپنے حق میں۔ بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔

لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَّا اُكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ^ج

ہر آدمی کو ان میں سے پہنچنا ہے، جتنا کما یا گناہ،

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور جن نے اٹھایا ہے اسکا بڑا بوجھ، اس کو بڑی مار ہے۔

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا

کیوں نہ، تم نے جب اس کو سنا تھا،

خیال کیا ہوتا ایمان والے مردوں نے اور عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال۔

وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مُّبِينٌ

اور کہا ہوتا یہ صریح طوفان (واضح بہتان) ہے؟

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ^ج

کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چار شاہد (گواہ)؟

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوذِيَكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَذِبُونَ

پھر جب نہ لائے شاہد (گواہ)، تو وہ لوگ اللہ کے ہاں وہی ہیں جھوٹے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اسکی مہر (رحمت) دنیا اور آخرت میں،

لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

البتہ تم پر پڑتی اس چرچا کرنے پر کوئی آفت بڑی۔

.12

.13

.14

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں،

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات۔ اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا

اور کیوں نہ ہو جب تم نے اس کو سنا تھا، کہا ہوتا ہم کو نہیں لائق کہ منہ پر لائیں یہ بات؟

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ

اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔

يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام کبھی، اگر تم یقین رکھتے ہو۔

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ

اور کھولتا ہے اللہ تمہارے واسطے پتے (نشانیوں)،

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا ایمان والوں میں، اُن کو دکھ کی مار ہے دنیا اور آخرت میں۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

.20

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اسکی مہر (رحمت)، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے مہربان، تو کیا کچھ ہوتا۔

.21

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

اے ایمان والو! نہ چلو قدموں پر شیطان کے،

وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

اور جو کوئی چلے گا قدموں پر شیطان کے، سو وہ یہی بتائے گا بے حیائی اور بُری بات۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا

اور کبھی نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اسکی مہر (رحمت)، نہ سنو تا تم میں ایک شخص کبھی۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ

لیکن اللہ سنوارتا ہے جس کو چاہے،

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور اللہ سب سنتا ہے جانتا۔

.22

وَلَا يَأْتِلُ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ

اور قسم نہ کھائیں بڑائی والے (صاحب فضل) تم میں، اور کشائش والے (صاحب حیثیت)،

أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ^ط

اس سے کہ (نہ) دیں ناتے والوں (رشتے داروں) کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں،

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا^ظ

اور چاہیے معاف کریں اور درگزر کریں۔

أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ^ظ

کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

جو لوگ عیب لگاتے ہیں قید والی (پاک دامن) بے خبر ایمان والیوں کو، ان کو پھٹکار ہے دنیا میں اور آخرت میں،

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور ان کو بڑی مار۔

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَمْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

جس دن بتائیں گی ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں، جو کچھ کرتے تھے۔

يَوْمَ يَدْعُؤْنَ إِلَى اللَّهِ دِينَهُمُ الْحَقِّ

اس دن پوری دے گا ان کو اللہ انکی سزا جو چاہیے،

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

اور جانیں گے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے (حق کو سچ کرنے) والا۔

ط
الْحَيْثُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْحَيْثُ لِلْخَبِيثَاتِ

گندیاں (خبیث عورتیں) ہیں گندوں (خبیث مردوں) کے واسطے

اور گندے (خبیث مرد) واسطے گندیوں (خبیث عورتوں) کے۔

ج
وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

اور ستھریاں (پاکیزہ عورتیں) ہیں واسطے ستھروں (پاکیزہ مردوں) کے

اور ستھرے (پاکیزہ مرد) واسطے ستھریوں (پاکیزہ عورتوں) کے۔

ط
أُولَئِكَ مُدْبِرُونَ مِمَّا يَقُولُونَ

وہ لوگ بے لگاؤ (مبرا) ہیں ان باتوں سے، جو کہتے ہیں،

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

ان کو بخشنا (بخشش) ہے اور روزی ہے عزت کی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اے ایمان والو!

ج
لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا

مت جایا کرو کسی گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک نہ بول چال کرو اور سلام دے لو اس گھر والوں پر۔

ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، شاید تم یاد رکھو۔

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ^ط

پھر اگر (موجود) نہ پاؤ اس میں کوئی، تو اس میں نہ جاؤ، جب تک پروانگی (اجازت) نہ ہو تم کو۔

وَإِن قِيلَ لَكُمْ امْرُجِعُوا فَاْمُرِجِعُوا^ط

اور اگر تم کو کہے کہ پھر (لوٹ) جاؤ، تو پھر (لوٹ) جاؤ،

هُوَ أَرْسَىٰ لَكُمْ^ج

اسی میں خوب سٹھرائی (پاکیزگی) ہے تمہاری،

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

اور اللہ جو کرتے ہو جانتا ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ^ج

نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بستا اس میں کچھ چیز ہو تمہاری۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

اور اللہ کو معلوم ہے جو کھولتے (ظاہر کرتے) ہو اور جو چھپاتے ہو۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيْدِيهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ^ج

کہہ دے ایمان والوں کو، نیچی رکھیں ٹک اپنی آنکھیں، اور تھامتے رہیں اپنے ستر (شرم گاہیں)۔

ذَلِكَ أَرْسَى لَهُمْ^ط

اس میں خوب سٹھرائی (پاکیزگی) ہے ان کی۔

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہیں۔

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

اور کہہ دے ایمان والیوں کو، نیچی رکھیں ٹک اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں اپنے ستر (شرم گاہیں)،

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط

اور نہ دکھائیں اپنا سنگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے،

وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط

اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر۔

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

اور نہ کھولیں اپنا سنگار، مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے یا خاوند کے باپ کے،

أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

یا اپنے بیٹے کے یا خاوند کے بیٹے کے، یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے،

أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

یا اپنی عورتوں کے، یا اپنے ہاتھ کے مال کے،

أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الإِمْرَةِ مِنَ الرِّجَالِ

یا کمیروں (ملازم) کے جو مرد کچھ غرض نہیں رکھتے،

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط

یا لڑکوں کے جنہوں نے نہیں پہنچانے عورتوں کے بھید۔

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ج

اور نہ دھمکائیں اپنے پاؤں سے کہ جانا پڑے (ظاہر ہو) جو چھپاتی ہیں اپنا سنگار۔

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر، اے ایمان والو؟ شاید تم بھلائی پاؤ۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^ج

اور بیاہ دو راندوں (مجردوں) کو اپنے اندر، اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں۔

إِنْ يَكُونُوا أَفْقَرًا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ط

اگر وہ ہوں گے مفلس اللہ ان کو غنی کرے گا اپنے فضل سے۔

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اور اللہ سمائی (گنجائش) والا ہے سب جانتا۔

وَلَيْسُ تَعْفَى الَّذِينَ لَا يَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ط

اور آپ کو تھامتے رہیں جن کو نہیں ملتا (قدرت نہیں رکھتے) بیاہ (کی)،

جب تک مقدر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے۔

ط
وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

اور جو لوگ چاہیں لکھا (معادہ آزادی) تمہارے ہاتھ کے مال میں،
تو ان کو لکھا (معادہ آزادی) دے دو اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی۔

ج
وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

اور دو ان کو اللہ کے مال سے، جو تم کو دیا ہے۔

ج
وَلَا تُكْرَهُوَ أَفْتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور نہ زور کرو اپنی چھو کر یوں پر بد کاری کے واسطے،

اگر وہ چاہیں قید میں (پاک دامن) رہنا، کہ کمایا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا۔

وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور جو کوئی ان پر زور کرے تو اللہ ان کی بے بسی پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ

اور ہم نے اتاریں تمہاری طرف آیتیں کھلی،

وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

اور ایک دستور ان کا (مثالیں انکی) جو ہو چکے ہیں تم سے آگے (پہلے) اور نصیحت ڈروالوں کو۔

ج
اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ روشنی (نور) ہے آسمانوں کی اور زمین کی،

.34

.35

مَثَلُ نُورِهِ كَمَشْكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ^ط

کہاوت اسکی روشنی (نور) کی جیسے ایک طاق اس میں ایک چراغ۔

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ^ط

چراغ دھرا (رکھا) ایک شیشہ میں۔

الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ

شیشہ جیسے ایک تارا ہے جھمکتا،

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ

تیل جلتا ہے اس میں ایک درخت برکت کے سے، وہ زیتون ہے، نہ سورج نکلنے کی طرف نہ ڈوبنے کی طرف،

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ^ج

لگتا ہے اسکا تیل کہ سلگ اٹھے، ابھی نہ لگی ہو اسکو آگ۔

نُورًا عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ^ج

روشنی پر روشنی، اللہ راہ دیتا ہے اپنی روشنی (نور) کی جس کو چاہے۔

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

اور بتاتا ہے اللہ کہاوتیں لوگوں کو۔ اور اللہ سب چیز جانتا ہے۔

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُرَذَّكَرَ فِيهَا أَسْمَاءٌ

(یہ) ان گھروں میں (ہیں) کہ (جنگے بارے میں) اللہ نے حکم دیا ان کو بلند (تعظیم) کرنے کا

اور وہاں اُس کا نام پڑھنے کا،

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ

یاد (تسبیح) کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام۔

.37

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

وہ مرد کے نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے،

اور نماز کھڑی رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے،

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

ڈر رکھتے ہیں اس دن کا، جس میں اُلٹے جائیں گے دل اور آنکھیں۔

.38

لِيَجْزِيَهِمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ^ظ

کہ بدلہ دے ان کو اللہ اُنکے بہتر سے بہتر کاموں کا اور بڑھتی دے ان کو اپنے فضل سے۔

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔

.39

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يُحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً

اور جو لوگ منکر ہیں، اُن کے کام جیسے ریت جنگل میں (سراب)، پیاسا جانے اس کو پانی،

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ^ظ

یہاں تک کہ جب پہنچا اس پر اُن کو کچھ نہ پایا، اور اللہ کو پایا اپنے پاس، پھر اس کو پورا پہنچا دیا اس کا لکھا۔

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔

أَوْ كَظُلْمَتٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ^ج

.40

یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں، چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر، اُس پر ایک لہر، اُس کے اوپر ایک بدلی۔

ظُلْمَتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذْ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا^ط

اندھیرے ہیں ایک پر ایک۔ جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ اس کو سوجھے (دکھائی دے)۔

وَمَنْ لَّمْ يُجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ

اور جس کو اللہ نے نہ دی روشنی اس کو کہیں نہیں روشنی۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَوْتٌ^ط

.41

تو نے نہ دیکھا، کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں، اور اڑتے جانور پر کھولے؟

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ^ط

ہر ایک نے جان رکھی اپنی طرح کی بندگی اور یاد۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

اور اللہ کو معلوم ہے جو کرتے ہیں۔

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ^ط

.42

اور اللہ کی حکومت ہے آسمان و زمین میں،

وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

اور اللہ ہی تک پھر جانا (پلٹنا) ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رِجَامًا

تو نے نہ دیکھ کہ اللہ ہانک لاتا (چلاتا) ہے بادل، پھر ان کو ملاتا ہے، پھر ان کو رکھتا ہے تہہ بہ تہہ،

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ

پھر تو دیکھے مینہ نکلتا ہے اسکے بیچ سے، اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے،

فَيَصِيبُ بِهٖ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَن يَشَاءُ

پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے۔

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ

ابھی اس کی بجلی کی کوند لے جائے آنکھیں۔

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

اللہ بدلتا ہے رات اور دن۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَرِ

اس میں دھیان کی جگہ (سبق) ہے آنکھ والوں کو۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ

اور اللہ نے بنایا ہر پھر نے والا ایک پانی سے۔

فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ

پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر،

وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ

اور کوئی ہے کہ چلتا ہے دو پاؤں پر، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے چار پر۔

يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ

بناتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۚ

ہم نے اتار دیں آیتیں کھول بتانے والی (واضح)۔

وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

اور اللہ لائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا

اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو، اور رسول کو اور حکم میں آئے،

ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۚ

پھر پھر اجاتا ہے ایک فرقہ ان میں اس پیچھے۔

وَمَا أَوْلِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

اور وہ لوگ نہیں ماننے والے۔

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ

اور جب انکو بلائے اللہ اور رسول کی طرف کہ ان میں قضیہ چکا دے،

تب ہی ایک فرقہ ان میں منہ موڑتے ہیں۔

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ

اور اگر ان کو کچھ پہنچتا ہو (مل رہا ہو کچھ حق) تو چلے آئیں اسکی طرف قبول کر کر۔

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ امْتَرَبُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ

کیا انکے دل میں روگ ہے یا دھوکے میں پڑے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کریگا ان پر اللہ اور رسول اسکا؟

بَلْ أَوْلِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

کوئی نہیں، وہی لوگ بے انصاف ہیں۔

إِذَا مَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

ایمان والوں کی بات یہ تھی،

جب بلائے ان کو اللہ اور رسول کی طرف، فیصلہ کرنے کو ان میں کہ کہیں ہم نے سنا اور مانا۔

وَأَوْلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اور وہ لوگ انہی کا بھلا ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

اور جو کئی حکم پر چلے اللہ کے اور اسکے رسول کے اور ڈرتا ہے اللہ سے اور بچ کر چلے اس (کی نافرمانی) سے، سو وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ

اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر تو حکم کرے تو سب کچھ چھوڑ نکلیں،

قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً

تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ۔ حکم برداری چاہیے جو دستور ہے۔

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

البتہ اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہو۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

پھر اگر تم منہ پھیرو گے، تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا اور تمہارا ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا۔

وَإِنْ تُطِيعُوا فَتُخْتَدُوا

اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ (ہدایت) پاؤ۔

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

اور پیغام والے کا ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا کھول کر۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وعدہ دیا اللہ نے جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں نیک کام،

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

البتہ پیچھے حاکم کریگا ان کو ملک میں، جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو۔

وَلَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

اور جمادے گا ان کو دین ان کا، جو پسند کر دیا ان کو اور دیگا ان کو ان کے ڈر کے بدلے امن۔

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا

میری بندگی کریں گے۔ شریک نہ کریں گے میرا کوئی۔

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

اور جو کوئی ناشکری کریگا اس پیچھے، سو وہی لوگ ہیں بے حکم۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

اور کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور حکم میں چلو رسول کے، شاید تم پر رحم ہو۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

نہ خیال کر کہ یہ جو منکر ہیں تھکا دیں گے بھاگ کر ملک میں۔

وَمَا لَهُمْ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ

اور ان کو ٹھکانا آگ ہے، اور بُری جگہ ہے پھر جانے کی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْئَلَنَّكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

اے ایمان والو! پروانگی (اجازت) مانگ کر آئیں تم میں سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں،

وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

اور جو نہیں پہنچے تم میں عقل کی حد کو تین بار۔

مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَمِنَ الْبُعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

فجر کی نماز سے پہلے، اور جب اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں اور عشاء کی نماز سے پیچھے،

ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ

یہ تین وقت کھلنے کے ہیں تمہارے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ

کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر ان کے پیچھے،

طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

پھر اہی کرتے ہو ایک دوسرے پاس۔

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں، اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْئَلُوا كَمَا أَسْأَلَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

اور جب پہنچیں لڑکے تم میں عقل کی حد کو تو ویسی پروانگی (اجازت) لیں جیسے لیتے رہے ہیں ان سے اگلے۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

یوں کھول سناتا ہے اللہ تم کو اپنی باتیں۔ اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا

اور جو بیٹھ رہی ہیں تمہاری عورتوں میں، جن کو توقع نہیں بیاہ کی،

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ

اُن پر گناہ نہیں کہ اتار رکھیں اپنے کپڑے، یہ نہیں کہ دکھاتی پھریں اپنا سنگار۔

وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور اس سے بھی بچیں تو بہتر ہے ان کو۔ اور اللہ سب سنتا ہے جانتا۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

نہیں اندھے پر کچھ تکلیف، اور نہ لنگڑے پر تکلیف، اور نہ بیمار پر تکلیف،

وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ

اور نہیں تکلیف تم لوگوں پر کہ کھا لو اپنے گھروں سے،

أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ

یا اپنے باپ کے گھروں سے، یا اپنی ماں کے گھر سے، یا اپنے بھائی کے گھر سے، یا اپنی بہن کے گھر سے،

أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ

یا اپنے بچا کے گھر سے، یا اپنی پھوپھی کے گھر سے، یا اپنے ماموں کے گھر سے، یا اپنی خالہ کے گھر سے،

أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ^ج

یا جس کی کنجیوں کے مالک ہوئے ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے،

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا^ج

نہیں گناہ تم پر کہ کھاؤ مل کر یا جدا۔

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكََةً طَيِّبَةً^ج

پھر جب جانے لگو کبھی گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر نیک دُعا ہے اللہ کے ہاں سے برکت کی ستھری۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں، شاید تم (سمجھ) بوجھ رکھو۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور اسکے رسول پر،

وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْأَلُوهُ^ج

اور جب ہوتے ہیں اسکے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں،

تو چلے نہیں جاتے جب تک اس سے پرواگی (اجازت) نہ لیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَسْأَلُونَكَ أَوْلِيكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ^ج

جو لوگ تجھ سے پرواگی (اجازت) لیتے ہیں، وہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔

فَإِذَا اسْعَدْنَا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِّنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ^ج

پھر جب پروانگی مانگیں تجھ سے اپنے کسی کام کو تودے پروانگی جس کو ان میں تو چاہے،

اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے،

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔

لَا تَجْعَلُوا أَدْعَاءَ الرُّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا^ج

مت ٹھہراؤ بلا نارسول کا اپنے اندر برابر اس کے جو بلاتا ہے تم میں ایک کو ایک۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا^ج

اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں جو سٹک (کھسک) جاتے ہیں آنکھ بچا کر۔

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

سو ڈرتے رہیں جو لوگ خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا، کہ پڑے ان پر کچھ خرابی یا پہنچے ان کو دکھ کی مار۔

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ^ط

سنئے ہو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں۔

قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا^ط

اس کو معلوم ہے جس حال میں تم ہو۔

اور جس دن پھیرے جائیں گے اس کی طرف تو بتائے گا ان کو جو انہوں نے کیا۔

.63

.64

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

اور اللہ سب چیز جانتا ہے۔

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com

Email:

quran4u_com@yahoo.com